



سوال

نماز عشاء کے فوراً بعد وتر پڑھنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مجھے قرآن مجید کی تلاوت اذکار اور مستحب نمازوں مثلاً وتر وغیرہ کا بہت شوق ہے۔ لیکن اکثر نماز وتر بوجھل محسوس ہونے لگتی ہے۔ خصوصاً جب کہ نماز عشاء کے فوراً بعد اسے اذکاروں کو کیا یہ جائز ہے۔ کہ میں اسے نماز عشاء کے فوراً بعد ادا کر لیا کروں یا ضروری ہے کہ اسے مؤخر کیا جائے اور سونے سے پہلے پڑھا جائے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

سونے تک اسے مؤخر کرنا افضل نہیں ہے۔ جب کہ یہ نسیان یا گرانی یا غفلت کا زریعہ بنے بلکہ اس صورت میں اسے نماز عشاء کے فوراً بعد ادا کرنا افضل ہے۔ ہاں البتہ اگر رات کے آخری حصہ میں اٹھنے کا وثوق ہو تو پھر اسے مؤخر کرنا افضل ہے۔ اور اگر نیند یا غفلت کا اندیشہ ہو تو احتیاط اس میں ہے کہ اسے رات کے پہلے حصہ ہی میں پڑھ لیا جائے۔

حدا ما عنہدی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ

ج 1 ص 450

محدث فتویٰ